



سوال

(241) کیا دانستہ چھوڑے ہوئے روزے کا کفارہ ہے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعض علماء کہتے ہیں کہ وظیفہ زوجیت کی وجہ سے رمضان کا روزہ ٹوٹنے کی صورت میں کفارہ واجب ہے لیکن رمضان کے روزے کے دوران دانستہ کھاپی لیا تو قضاء واجب ہے، کفارے کا ذکر اس صورت میں حدیث میں نہیں ملتا۔ کیا کفارہ واجب نہیں؟ (سائل: محمد علی شاہ، لاہور) ۳۱ مئی ۲۰۰۲ء)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

مسئلہ ہذا میں اہل علم کا اختلاف ہے جمہور کا مسلک یہ ہے کہ اس میں کفارہ نہیں۔ ”نیل الاوطار“ میں ہے:

’وَقَالُوا: لَا كَفَّارَةَ إِلَّا فِي الْجَمَاعِ- (نیل الاوطار: ۲۵۵/۴)

”جمہور کہتے ہیں کفارہ صرف جماع میں ہے نہ کہ کھانے پینے میں۔“

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ حاظ ثناء اللہ مدنی

جلد: 3، کتاب الصوم: صفحہ: 239

محدث فتویٰ